

COUMARIN	کومارین	ICSC: 1105
CAS # 91-64-5 RTECS # GN4200000 UN # 2811 EC # EINECS# UN Hazard class: 6.1		دیگر نام : 1,2--Benzopyrone 2H-1-Benzopyran-2-one فارمولہ: C ₉ H ₆ O ₂ سالانی و وزن: 146.14
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانہ	بچاؤ	خطہ کی قسم
پانی کا سپرے AFFF پاؤڈر کاربن ڈائی آسائید	کھلے شعلے اور سگریٹ نوشی سختی سے منع میں۔	شدید نظرات \ علامات خلنے والا مادہ۔ آگ:
		دھاکہ:
تازہ ہوایں لے جائیں، آرام دلائیں	ہوا کی آمد و رفت کا انتظام کریں	جسم میں داغلہ: سانس کے راستے:
خراب شدہ پکڑے تاریں یہ بھائیں پھر جلد کو پانی اور صابن سے دھوئیں	خناقلتی دلتا نے استعمال کریں خناقلتی لباس استعمال کریں	جذب کر سکتا ہے سرنحی بلن کا احساس جلد کے راستے:
پہلے کجھی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔	چہرے کی شدید استعمال کریں	آنکھوں میں پڑنا:
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں پانی میں Activated charcoal گھول کر پلانیں۔	کام کے دوران خود دفعوں اور سگریٹ نوشی مت کریں	نگلنے کی صورت میں:
پیکٹ کرنا اور لیبل لگانا:	بچھنے کی صورت میں اقدامات:	
خوراک یا جانوروں کی فیڈ کے ساتھ بار برداری نہ کریں۔	اعتنیاط کے ساتھ بقیہ مادے کو انکھا کریں پھر اس کو محفوظ جگہ پر لے جائیں .. (غیر معمولی ذاتی تحفظ، ضرر سال ذرات کے لئے P2 فلٹر والے ماکٹ کی ضرورت)۔	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
خوراک اور جانوروں کی فیڈ سے علیحدہ رکھیں	Transport Emergency Card: TEC (R)-[61G12c]	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

OUMARIN	کومارین	ICSC: 1105
اہم معلومات		
<p>جسم میں داغنے کے راستے: یہ مادہ جسم میں جلد کے راستے نگلنے پر جذب ہو سکتا ہے</p> <p>سانس کے راستے داغنے کے اثرات: 20 سنٹی گریڈ پر تباہی رائے نام ہوتی ہے لیکن ہوا میں ذرات کی مقدار تباہی سے تکلیف دہ حد کو پھو سکتی ہے</p> <p>مختصر مدت کے لیے جسم میں داغنے کے اثرات: جلد پر سوزش پیدا ہوتی ہے</p> <p>طویل مدت کے لیے جسم میں داغنے کے اثرات: یہ مادہ مکن طور پر انسانوں کو کینسر کر سکتا ہے.</p>	<p>طبعی حالت: چھلکے مخصوص بوکے ساتھ</p> <p>ہوا میں مقررہ حدود: TLV معین نہیں کی گئی ہے</p>	
طبعی خواص		
<p>فلیش پاہنٹ: 150 سنٹی گریڈ</p> <p>log pow کے طور پر اکنالول مقابلہ پانی پارٹیشن کو فیشنٹ: 1.39</p>	<p>نقاط جوش: [297-299] سنٹی گریڈ</p> <p>نقاط پگلاو: [68-70] سنٹی گریڈ</p> <p>کثافت اضافی (بال مقابلہ پانی = 1): 0.94 g/cm^3</p> <p>پانی میں حل پذیری (گرام میں 100 ملی لٹر): poor</p> <p>20 سنٹی گریڈ پر بخاراتی پیش: [0.13] Kpa</p>	
ماخیاتی اعداد و شمار		
نوٹس (Notes)		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety	    	Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999